

برائے فوری اجراء

## سٹی کے کایا پلٹ رور واک پراجیکٹ پر عمل درآمد قریب تر ہوتا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (15 ستمبر 2020) – سٹی آف برامپٹن اپنے رور واک پراجیکٹ کی تعبیر کے ایک قدم قریب بڑھ گیا ہے، جو ایک کایا پلٹ قدم ہے اور یہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی معاشی توانائیوں کو سامنے لانے میں مدد کرے گا۔

اس مہینے کی ابتداء میں، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فلڈ پروٹیکشن انوائرنمنٹل اسیسمنٹ کو منظور کر لیا گیا تھا۔ سٹی اب ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سے ایٹوبیکوک کریک کو چوڑا کرنے کے لیے ایک تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن کو آگے بڑھا سکتا ہے، جو حکومتی فنڈنگ پر مبنی ہے۔ انجینئرنگ ڈیزائن اس علاقے میں سیلاب کے موجودہ خطرے کو کم کر گا اور رور واک پر نفاذ کے لیے بنیاد بنائے گا۔

رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن میں دوبارہ جان ڈلنے میں مدد دے گا اور اسے قابل استحکام، صحت بخش اور لچکدار بنائے گا۔ رور واک کا مقصد ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلاب کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک پرجت اور طویل مدتی حل تیار کرنا ہے، جس کے نتیجے میں شہری بڑھوتری و ترقی ہو گی، سرمایہ کاری کے کشش پیدا ہو گی اور علاقے میں عوامی جگہیں بڑھیں گی اور بہتر ہوں گی۔

### رور واک کے متعلق

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن ایٹوبیکوک کریک کے نشیبی علاقے میں ہے۔ خطرات کو منتظم کرنے کے حوالے سے صوبائی پالیسیوں نے اب تک اس علاقے میں موجودہ طور پر ممکن ترقی کی قسم اور تعداد کو محدود کیا ہے۔ رور واک سیلاب کے خطرے کو چھٹکارا حاصل کرنے اور نئی، کھلی شہری جگہ بنانے کے لیے دو حصوں پر مشتمل حل ہے، جو برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن کو نئی زندگی بخشنے میں مدد دے گا اور اسے صحت بخش، قابل استحکام اور لچکدار بنائے گا۔

سیلاب کے موجودہ خطرے اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں منصوبہ بندی اور ترقی پر پابندیوں کو ہٹا کر، رور واک اس علاقے سے ایک بدلے ہوئے ایٹوبیکوک کریک کا تصور رکھتا ہے، جو عوامی جگہوں اور پارکس سے گھرا ہو، جو ایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور ایک ٹریل سسٹم کے ذریعے مربوط ہو۔ توقع کے مطابق یہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں 3.6 ملین مربع فٹ رہائشی، کاروباری اور پرچون کی جگہ کھولے گا، جس سے 23,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی اور GDP پر \$1.4 ارب کا اثر ہو گا۔

آنے والے مہینوں میں، رہائشیوں کو پراجیکٹ کے متعلق اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔

رور واک کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/riverwalk](http://www.brampton.ca/riverwalk) ملاحظہ فرمائیں۔

### اقتباسات

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی توانائیوں کو زیر استعمال لانا کونسل کے لیے کلیدی ترجیح ہے، جس طرح ایک ایسے ماحول دوست شہر بھی ترجیحات میں شامل ہے، تو طاقتور، لچکدار اور قابل استحکام ہے۔ رور واک ایک انقلابی پراجیکٹ ہے، جو ہمیں ان دونوں اہداف کو حاصل کرنے میں ہماری معاونت کرے گا اور ساتھ ہی سیلاب کا خطرہ کم کرنے، ترقی لانے اور نوکریاں پیدا کرنے اور تمام لوگوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے عوامی جگہ کو بہتر بنانے کے لیے برامپٹن کو نمایاں کرے گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن مواقع کا شہر ہے، جو ایک متنوع اور بڑھتے ہوئے ڈاؤن ٹاؤن کے ساتھ ایک تخلیقی، پرجت اور انٹرپرائیوٹریل ماحول کو ممکن بناتا ہے۔ جبکہ سٹی رور واک بنانے کے قریب بڑھ رہا ہے، ہم مزید نوکریاں اور ایسی جگہیں بنانے کی جانب ایک اور قدم بڑھا رہا ہے، جس سے رہائشی آنے والے سالوں میں لطف اندوز ہو سکیں گے۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"نہ صرف رور واک پراجیکٹ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں سیلاب کا خطرہ کم کرتا ہے، بلکہ یہ شہری بڑھوتری اور ترقی پیدا کر کے اور علاقے میں سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کر کے مواقع کا ایک شہر بننے کی ہماری ترجیح کے حصول میں ہماری مدد کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ انقلابی قدم یقینی بنائے گا کہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن قابل استحکام، صحت بخش اور لچکدار ہو اور وہاں رہنے والے تمام لوگوں کے رہنے اور گھومنے کے لیے ایک پرلطف جگہ ہو۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8، وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"رور واک برامپٹن کے لیے ایک پرجوش قدم ہے، جو کونسل کے اس دور کی ترجیحات کے ساتھ گہری مطابقت رکھتا ہے۔ عملہ ڈاؤن ٹاؤن کی تجدید کو ممکن بنانے، ہمارے رہائشیوں کے لیے مکمل اور قابل استحکام کمیونٹیاں بنانے اور جدت میں ایک عالمی رہنماء بننے کے لیے رور واک پراجیکٹ کو بڑھانا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

#### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)